بسم اللہ الرحمن الرحیم

[illegible]

روزنامہ

الفضل ربوہ

The Daily
ALFAZL
RABWAH

ایڈیٹر روشن دین تنویر

قیمت [illegible]

جلد [illegible] | [illegible] تبلیغ [illegible] ہش [illegible] رمضان المبارک [illegible] ھ ۹ فروری [illegible] | نمبر ۳۵

سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی صحت کے متعلق تازہ اطلاع

ربوہ ۸ فروری بوقت ۹ بجے صبح

سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی صحت کے متعلق آج صبح کی اطلاع مظہر ہے کہ طبیعت خدا تعالیٰ کے فضل سے اچھی ہے۔ الحمد للہ

احباب جماعت خاص توجہ اور التزام سے دعائیں کرتے رہیں کہ مولا کریم اپنے فضل سے حضور کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین

اخبار احمدیہ

• ربوہ [illegible] فروری کو [illegible] مولانا [illegible] صاحب [illegible] رمضان کے [illegible] [illegible] اور [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

• مکرم [illegible] شیخ فضل الرحمن صاحب [illegible] [illegible] احباب جماعت [illegible] اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آمین

ارشادات عالیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گھر رحمت سے بھر جاتے ہیں

اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو

پس توبہ کو عمل سے سنبھال کرو اور یہ خیال کرو کہ [illegible] میں چھوڑ جاؤ [illegible] ایک امانت اللہ تعالیٰ کی خیال کرو۔ اور [illegible] اللہ تعالیٰ کی [illegible] ہے جو کہ [illegible] کے وقت اس کے حکم سے [illegible] گئی ہے۔ اس نے مجھے فرمایا ہے واصنع الفلک [illegible] اور پھر یہ بھی فرمایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم جیسے بادشاہ اپنی دنیا میں اپنے نائب کو بھیجتا ہے اور پھر جو اس کا مطیع ہوتا ہے اسے بادشاہ کا مطیع سمجھا جاتا ہے۔ ویسا ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نائب دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج کل تو [illegible] جس کے [illegible] سے [illegible] [illegible] سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گھر رحمت سے بھر جاتے ہیں۔۔۔

غرض اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو [illegible] سستی ہو جاوے تو [illegible] کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو کیونکہ جس عضو سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاوے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے۔ اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے اور اگر وہ سچی توبہ ہے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین میں بویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ (البدر [illegible])

۲۹ رمضان المبارک کی دعائیہ فہرست میں شامل ہونے کیلئے کوشش فرمائیں

رمضان المبارک کو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تحریک جدید کی مالی [illegible] میں حصہ لینے کا بھی یہی مناسب وقت ہے۔

[illegible] انشاء اللہ ۲۹ رمضان المبارک تک [illegible] کرنے والے [illegible] کے نام حضور کی خدمت میں دعا کے لئے پیش کئے جائیں گے۔ [illegible] [illegible] [illegible]

وکیل المال اوّل

حضرت سیدہ ام مظفر احمد صاحبہ کی صحت کے متعلق تازہ اطلاع

ربوہ ۸ فروری۔ حضرت سیدہ ام مظفر احمد صاحبہ کی صحت کے متعلق آج صبح کی اطلاع مظہر ہے کہ [illegible] [illegible] ڈاکٹروں کا خیال ہے [illegible] [illegible] طبیعت [illegible]

احباب جماعت خاص توجہ اور التزام سے دعائیں جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حضرت سیدہ موصوفہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین

مسعود احمد پرنٹر و پبلشر نے ضیاء الاسلام پریس ربوہ میں چھپوا کر دفتر الفضل دارالرحمت غربی ربوہ سے شائع کیا

روزنامہ الفضل ربوہ

مورخہ ۹ فروری ۱۹۶۲ء

"سچا سودا"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

کوئی بلائے تو وہ اب بھی بول سکتا ہے

در مکالمہ ہر وقت کھول سکتا ہے
کوئی بلائے تو وہ اب بھی بول سکتا ہے
مجدّدین ہیں میزانِ سنّت و قرآں
عمل سے ان کے عمل تو بھی تول سکتا ہے
مگر یہ منبعِ خود ساختہ تو کچھ بھی نہیں
فقط غرور سے مسائل ٹٹول سکتا ہے
جو چھوڑتا چشمۂ آبِ حیات بطحا سے
ڈھکوسلوں سے وہ زہر ہی گھول سکتا ہے
امامِ وقت سے ہٹ کر وہ ادعیٔ تجدید
وہ موتیوں کو بھی مٹی میں رول سکتا ہے
ملے دین میں کچھ نظریات لا دینی
وہ صاف پانی میں کیچڑ گھول سکتا ہے
اگر نگاہ میں تقویٰ کا ہو اثر تنویر
تو دل فرشتے کے سینے میں ڈول سکتا ہے

عہدِ حاضر اور احمدی نوجوان

تحریر محترم مرزا عبدالحق صاحب ایڈووکیٹ بر موقعہ جلسہ سالانہ [illegible]

[illegible]

دجال فتنہ کا زمانہ

[illegible]

مسیح موعود کی بعثت

[illegible]

اعتراف حقیقت

[illegible]

وقفِ جدید کی تحریک بھی ایک الٰہی تحریک ہے

(ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی)

[illegible]

لیڈر

بقیہ از صفحہ ۳

[illegible]

درخواستِ دعا

[illegible]

[illegible]

پاکستان [illegible]

[illegible]

مسٹر والٹر کا بیان

[illegible]

اذکروا موتٰکم بالخیر

محترم چوہدری خدا بخش صاحب مرحوم کا ذکرِ خیر

مکرم عبدالحمید صاحب شوقی ۔ لاہور

[illegible]

انا للّٰہ و انا الیہ راجعون

[illegible]

[redacted]

چندہ جلسہ سالانہ

(قسط نمبر ۳)

[illegible]

۱۰۰ فیصدی بجٹ پورا کرنے والی جماعتیں

ضلع جھنگ [illegible]

[illegible]

[illegible] بجٹ [illegible] تہائی وصولی

ضلع جھنگ [illegible]

[illegible]

[illegible] تہائی وصولی

ضلع جھنگ [illegible]

ضلع سرگودھا [illegible]

[illegible]

(ناظر بیت المال ربوہ)

اپنے مرحوم والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ

[illegible]

عزم حج

[illegible]

درخواست ہائے دعا

[illegible]

زکوٰۃ کی ادائیگی اموال کو بڑھاتی اور تزکیہ نفس کرتی ہے۔

جماعت کی ترقی کا راز

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ایک ضروری یاددہانی

محترم [illegible] داؤد احمد صاحب ربوہ

[illegible]

اُم الالسنہ

ARBIC!
The source of all
language

[illegible]

درخواست دعا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

جرمانکس
GERMANOX

[illegible]

جرمانکس ایک دفعہ استعمال کی ہمیشہ کے لئے [illegible]

[illegible] حاصل کیجئے

فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ربوہ

[redacted]

وصایا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مسل نمبر ۱۶۲۰۵

[illegible]

[illegible]

مسل نمبر ۱۶۲۰۴

[illegible]

[illegible]

مسل نمبر ۱۶۲۰۳

[illegible]

بعض ضروری اور اہم خبروں کا خلاصہ

[illegible]

وصایا جات کی آخری تاریخ

[illegible]

(ناظم مال وقف جدید)

درخواست دعا

[illegible]

[illegible]

محترم چوہدری خدا بخش صاحب مرحوم کا ذکر خیر

[illegible]

[illegible]

ترسیل زر اور اشتہارات
کے متعلق
مینیجر الفضل
سے
خط و کتابت کیا کریں